

تاریخ: 19/01/2021

### اربروڈ وارڈ کونسلرز کی طرف سے کووڈ-19 سے متعلق بیان

اربروڈ وارڈ میں کووڈ-19 کے کیسز میں حالیہ اضافے کو ہم تشویش کیساتھ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ کووڈ-19 کیسز کی شرح ہمارے شہر میں تیزی سے بڑھ رہی ہے، بالخصوص ہماری سٹی سینٹر کمیونٹیز میں یہ وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور افسوس کیساتھ ہمیں اس کے مزید تر سنگین نتائج کا سامنا ہے۔

ہم تمام شہریوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اربروڈ میں کہ لئے صحیح اقدام اٹھائیں، اپنے گھروں پر رہیں اور صرف ضروری وجوہات کی بنا پر گھر سے نکلیں۔ ہم وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے کیلئے ہماری کمیونٹی، کاروباری اور مذہبی رہنماؤں کی طرف سے کئے جانے والے اقدامات کو سراہتے ہیں اور ان کی کاوش میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔

کوئی بھی ایسا شخص جو کووڈ-19 کی اہم علامات (کھانسی، بخار اور ذائقے یا سونگھنے کا احساس بدل جانا یا کھو جانا) محسوس کرتا ہے اسے فوری طور پر تنہائی اختیار کر لینی چاہئے اور 119 پر کال کر کے ٹیسٹ کی اپائنمنٹ حاصل کرنی چاہئے۔ اگر آپ کا کورونا ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آتا ہے تو آپ اور آپ کے اہل خانہ اور دیگر قریبی رابطے کے افراد کو 10 دنوں کیلئے خود کو تنہا کر لینا چاہئے۔ یہ اس وائرس کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کیلئے ضروری ہے۔ اگر آپ کی آمدن کم ہے یا آپ گھر سے کام نہیں کر سکتے تو اس تنہائی کی مدت کیلئے مالی معاونت موجود ہے۔ براہ مہربانی معلومات کیلئے [کونسل کی ویب سائٹ](https://www.derby.gov.uk/covid-19) پر جائیں یا پھر 01332 640 202 پر کال کریں۔

یاد رہے، اگر آپ کو طبی مشورے کی ضرورت ہو تو 111 پر کال کریں۔ بصورت آپ کو اپنی طبیعت ناساز لگتی ہے یا بیماری شدت اختیار کرتی ہے تو 999 پر کال کریں۔

اگر ہم سب ان تمام حالات میں قواعد و ضوابط کی عمل پیروی یقینی بنائیں گے اور ساتھ مل کر ایک دوسرے کی حفاظت کیلئے اقدام کریں گے تو یقیناً ہماری کمیونٹی کے کیسز کی تعداد میں کمی آئے گی۔

کونسل ہاؤس ، کارپوریشن اسٹریٹ ، ڈربی ، DE1 2FS  
derby.gov.uk

ڈربی سٹی کونسل پرائیویسی نوٹس دیکھنے کے لئے براہ کرم [derby.gov.uk/privacy-notice](https://www.derby.gov.uk/privacy-notice) پر جائیں۔